



PRESS RELEASE

For immediate release

March 11, 2020

Coronavirus contingency planning for general meetings of shareholders

ISLAMABAD, March 11: In light of the threat posed by the evolving COVID-19 situation (Corona Virus) and to protect the wellbeing of shareholders, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) advised all companies to modify their usual planning for annual general meetings. Meeting of the Board of Director may also be held through tele / video conferencing.

SECP has recommended all companies to consider and evaluate the risks in the present situation. Every company, is required to hold, an annual general meeting (AGM) within sixteen months from the date of its incorporation and thereafter once in every calendar year within a period of 120 days following the close of its financial year. As AGM season for December end companies is approaching, the directors and secretaries should modify their usual planning for their company's AGM in light of the threat posed by the evolving COVID-19 situation.

Directors should consider if members can consolidate their attendance and voting at AGMs into as few people as possible through proxies, while honoring quorum provisions. In order to avoid large gathering at one place, the companies may consider provision of video link facilities at different locations considering the geographical dispersal of its members. The companies shall consider basic protective measures during the meeting including facility of cleaning hand with sanitizers or soap and water. Moreover, for safety of members seating arrangement shall be made at appropriate distance.

Furthermore, voting through postal ballot may be considered by the chairman of the meeting or by the members present in person or through video-link or by proxy having not less than one-tenth of the total voting power by demanding poll for resolutions. This is safer option in current situation.

The members of a private company or a public unlisted company (having not more than 50 members), may pass a resolution (ordinary or special) by circulation signed by all the members for the time being entitled to receive notice of a meeting, except for the ordinary businesses specified under sub-section (2) of section 134 of the Companies Act, 2017 to be conducted in the annual general meeting.

The directors may hold their board meetings through tele or video link provided that the minutes of such meeting are approved and signed subsequently by all the directors.

کورونائرس؛ کمپنیاں شئیر ہولڈرز اور سالانہ اجلاسوں میں حفاظتی اقدامات کریں؛ ایس ای سی پی

کورونائرس؛ ایس ای سی پی کی کمپنیوں کو بورڈ کے اجلاس وڈیو کانفرنس کے ذریعے کرنے کی ہدایت

اسلام آباد (مارچ 11): سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کورونائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر، کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ

شئیر ہولڈرز کی صحت کے تحفظ کے لئے کمپنیاں اپنی شئیر ہولڈرز کا سالانہ اور کمپنیوں کی عمومی میٹنگ کی منصوبہ بندی میں کرونا سے بچاؤ کے حفاظتی

اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ کمپنیاں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس، ٹیلی فون کال یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کرنے کو ترجیح دیں۔

ایس ای سی پی نے اپنے اعلامیہ میں تمام کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں پیدا ہونے والے خطرات کا جائزہ لیں۔ ہر کمپنی کے

لئے لازمی ہے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کی تاریخ سے سولہ ماہ کے اندر اندر سالانہ عمومی اجلاس (AGM) منعقد کریں اور اس کے بعد ہر مالی سال

کے اختتام پر، 120 دن کے اندر اندر سال میں ایک بار عام اجلاس (AGM) کا انعقاد کرے۔ ایسی کمپنیاں جن کا سال دسمبر میں مکمل ہوا، ان

کمپنیوں کی جانب سے سالانہ اجلاس منعقد کئے جا رہے ہیں، لہذا کمپنیوں کے سیکریٹریز کو سفارش کی جاتی ہے کہ کمپنی کے سالانہ اجلاس کے لئے اپنی

معمول کی منصوبہ بندی کا موجودہ حالات کے تناظر میں جائزہ لیں۔

ایس ای سی پی نے ڈائریکٹرز کو تجویز دی ہے کہ بورڈ کے ممبرز کے کورم کی دفعات کا احترام کرتے ہوئے، پر کسی کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اے

جی ایم میں اپنی شرکت اور ووٹنگ کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں، ایک جگہ پر کسی بھی بڑے اجتماع سے بچنے کے لئے، کمپنیاں اپنے ممبران کی جغرافیائی

تعلق کے مطابق، مختلف مقامات پر ویڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی پر غور کیا جاسکتا ہے۔ کمپنیاں اجلاس کے دوران بنیادی حفاظتی اقدامات فراہم کرنے

پر غور کریں جن میں صفائی کے لئے صابن اور پانی سے ہاتھ صاف کرنے کی سہولیات شامل ہیں۔ مزید یہ کہ ممبران کی حفاظت کے لئے بیٹھنے کا انتظام بھی

مناسب فاصلے پر کیا جائے۔ مزید برآں، چیئرمین بورڈ اجلاس میں پیش کی گئی قراردادوں کی منظوری کے لئے ووٹنگ کے لئے پوسٹل بیلٹ کی سہولت کے

استعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں یہ محفوظ ترین انتخاب ہے۔

پرائیویٹ کمپنی یا پبلک ان لسٹڈ کمپنیاں، جن کے ممبران کی تعداد پچاس سے زائد نہ ہو، بورڈ کی کسی قرارداد کی منظوری سرکلکیشن کے ذریعے بی کر سکتے

ہیں، ماسوائے ایسے اقدامات اور فیصلے جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے ذیلی سیکشن (2) کے تحت سالانہ عام اجلاس میں کرنا ضروری ہیں۔

کمپنیوں کے ڈائریکٹرز ٹیلی یا ویڈیو لنک کے ذریعے بورڈ کے اجلاس منعقد کر سکتے ہیں اور اس طرح کے اجلاس کے منٹس تمام ڈائریکٹرز سے منظور اور دستخط کرائے جانے چاہیں۔